

Time: 35 Minutes	Paper Math 6 (T-6)	Total Marks: 25		
6th Month, 2nd Week, 6th Day	Revision Test (2nd Week)			
Q.1. Choose the correct options. (1 x 10 = 10)				
درست جواب کا انتخاب کریں۔				
(i) The collection of any information or facts is called:	معلومات یا حقائق کا مجموعہ کہلاتا ہے:			
(a) frequency تعداد (b) interval وقفہ (c) information معلومات (d) data مواد				
(ii) The data can be classified into:				
(a) 2 types دو اقسام (b) 3 types تین اقسام (c) 4 types چار اقسام (d) 5 types پانچ اقسام				
(iii) The mean is also known as:				
(a) speed سریع (b) distance فاصلہ (c) average اوسط (d) addition مجموعہ				
(iv) The total angle used in pie chart is:				
(a) 90° (b) 180° (c) 270° (d) 360°				
(v) Pie slices are used to draw:				
(a) bar chart بار چارت (b) pie chart پائی چارت (c) line graph لائن گراف (d) pictograph پلٹ گراف				
(vi) The tally marks show:				
(a) data مواد (b) class جماعت (c) frequency تعداد (d) graph گراف				
(vii) The bar graph is also known as:				
(a) bar chart بار چارت (b) pie chart پائی چارت (c) line graph لائن گراف (d) pictograph پلٹ گراف				
(viii) What is the mean of the given data 1.7m, 1.4m, 1.9m, 1.3m?				
دیئے گئے مواد میں اوسط کیا ہے؟				
(a) 1.55m (b) 1.56m (c) 1.57m (d) 1.58m				
(ix) What is the mode of the given data 4, 4, 7, 8, 9, 13, 4, 13, 6, 0, 13, 15 and 13?				
دیئے گئے مواد میں اعداد کیا ہے؟				
(a) 4 (b) 7 (c) 9 (d) 13				
(x) The median of the given data 45, 42, 53, 61, 44, 59 and 64 is:				
دیئے گئے مواد میں وسطانیہ ہے:				
(a) 4 (b) 3 (c) 2 (d) 7				

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.2. Answer the following questions: (4x2=8)

(i) Nadeem read a story book of 150 pages in 6 days what is his per day reading the book pages?

نیدم نے کہانیوں کی کتاب کے 150 صفحات 6 دن میں پڑھے۔ اس نے ایک دن میں کتنے صفحات پڑھے ہوں گے؟

(ii) What do you know about bar graph?

(iii) The mean of 10 numbers is 29.01, seven number of them are 10, 15, 18, 34, 45, 26 and 32. The remaining three numbers are equal to K. What is the value of K?

10 اعداد کی اوسط 29.01 ہے۔ ان میں سے سات اعداد 10, 15, 18, 34, 45, 26 اور 32 ہیں۔ باقی تین اعداد کے برابر ہیں۔ K کی قیمت کیا ہوگی؟

(iv) Find the mean of the given data.

13m, 14m, 37m, 24m, 20m, 16m and 19m.

Q.3. What do you know about grouped data and ungrouped data? (1x3=3)

گروہی مواد اور غیر گروہی مواد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

Q.4. The number of students of 7 different classes is given below. Draw the horizontal bar graph. (1x4=4)

مختلف کلاسوں کے طلباء کی تعداد گئی ہے۔ اس کا افقي بار گراف کھینچیں۔

Classes	1	2	3	4	5	6	7
No. of students	15	25	18	29	30	25	35